



## الْمَائِدَة

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورا کرو معاہدوں کو۔ حلال کر دیئے گئے ہیں تمہارے لئے چرنے والے چوپائے مویشی بجز انکے جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تمہیں۔ نہ حلال جاننا شکار کو جبکہ تم ہو احرام میں۔ بیشک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا  
يَتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا  
يُرِيدُ

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہونے بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانور کی اور نہ انکی پٹے پڑے ہوں جن کے گلوں میں اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرام کی طرف طلبگار بنے ہوئے فضل کے اپنے رب کے اور اسکی خوشنودی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ  
اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ  
لَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ  
رَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ

کے۔ اور جب احرام اتار دو تو پھر شکار کرو۔ اور نہ آمادہ کر دے تمہیں دشمنی ان لوگوں کی کہ انہوں نے روکا تھا تمکو مسجد حرام سے (اس بات پر) کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ اور تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں۔ اور مت تعاون کرو گناہ میں اور ظلم میں۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ بیشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرُ مِنْكُمْ شَنَاةٌ  
قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

حرام کیا گیا ہے تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور گوشت سور کا اور وہ کہ پکارا گیا ہو غیر اللہ (کا نام) جس پر اور وہ جو گلا گھٹ کر مر جائے اور وہ جو چوٹ لگ کر مر جائے اور وہ جو گر کر مر جائے اور وہ جو سینک لگ کر مر جائے اور وہ جس کو پھاڑ کھائیں درندے۔ مگر وہ جس کو (مرنے سے پہلے) ذبح کر لیا تم نے۔ اور وہ جو ذبح کیا گیا ہو آستانے پر اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم جوئے کے تیروں سے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج ناامید ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے۔ تو مت

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ  
وَالْحُمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ  
اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ  
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ  
السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۖ وَمَا ذُبِحَ  
عَلَى النَّصَبِ ۖ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا  
بِالْآزَامِ ۖ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسُ  
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ۖ فَلَا  
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ ۖ أَكْمَلْتُ

ڈرو ان سے اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ آج  
کامل کر دیا ہے میں نے تمہارے لئے تمہارا  
دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور پسند کر  
لیا تمہارے لئے اسلام بطور دین۔ پس جو شخص  
ناچار ہو جائے بھوک سے کہ نہ مانل ہو گناہ پر  
تو یقیناً اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

لَكُمْ دِينِكُمْ وَ اٰتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ  
رِيْنًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِيْ فِخْمَصَةِ غَيْرِ  
مُتَجَانِفٍ لِاٰثِمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ  
رَّحِيْمٌ ﴿٣﴾

پوچھتے ہیں وہ تم سے کونسی چیزیں حلال کی گئی  
میں ان کے لئے۔ کہہ دو کہ حلال کی گئی ہیں  
تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں۔ اور جنکو سدھا  
رکھا ہو تم نے شکاری جانوروں میں سے شکار پر  
دوڑانے کو کہ سکھاتے ہو تم انکو جو کچھ سکھایا  
ہے تمہیں اللہ نے۔ تو کھاؤ اس میں سے جو  
پکڑ رکھیں وہ تمہارے لئے اور لو نام اللہ کا اس  
پر۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ بیشک اللہ جلد  
لینے والا ہے حساب۔

يَسْأَلُوْنَكَ مَا ذَا اٰجَلٍ لَّهُمْ قُلْ  
اٰجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبُ وَ مَا عَلَّمْتُمْ  
مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِيْنَ تَعْلَمُوْنَهُنَّ  
مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَاْكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ  
عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوْا اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ  
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ  
الْحِسَابِ ﴿٤﴾

آج حلال کر دی گئیں تمہارے لئے سب پاکیزہ  
چیزیں اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب  
حلال ہے تمہارے لئے۔ اور تمہارا کھانا حلال

الْيَوْمَ اٰجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبُ  
وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ  
حِلٌّ لَّكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

ہے انکے لئے۔ اور (حلال میں) پاکدامن عورتیں مومنات میں سے اور پاکدامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے۔ جبکہ ادا کر دو تم انہیں ان کے مہر نکاح میں لانے کے لئے نہ کہ بدکاری کے لئے اور نہ کرنے کو چھپی آشنائی۔ اور جو منکر ہوا ایمان کا تو یقیناً ضائع ہو گئے اس کے عمل۔ اور وہ ہو گا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
اتَّيَمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي  
أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ  
الْخَسِرِينَ<sup>ع</sup>

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے جب تم کھڑے ہو نماز کے لئے تو دھولیا کرو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا۔ اور (دھولیا کرو) اپنے پیروں کو ٹخنوں تک۔ اور اگر تم ہو حالت جنابت میں تو (نہا کر) پاک ہو جایا کرو۔ اور اگر تم ہو بیمار یا سفر میں یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلا سے یا مقاربت کی ہو

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى  
الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا  
بُرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ<sup>ط</sup>  
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ  
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ  
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمْ تَمْسُوا



تم نے عورتوں سے پھر نہ مل سکے تمہیں پانی  
 تو تم تیمم کر لو ایسی مٹی سے جو پاک ہو۔ پس  
 مسح کرو اپنے منہ کا اور اپنے ہاتھوں کا اس  
 سے۔ نہیں چاہتا اللہ کہ مبتلا کرے تم کو کسی  
 تنگی میں بلکہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور  
 پوری کرے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم شکر کرو۔

النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا  
 صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ  
 وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ  
 عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ  
 لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

اور یاد کرو احسان اللہ کے (جو کئے اس نے)  
 تم پر اور اس کے عہد کو وہ کہ لیا تھا تم سے قول  
 جس کا۔ جب کہا تھا تم نے کہ سنا ہم نے اور  
 قبول کیا ہم نے۔ اور ڈرو اللہ سے۔ یقیناً اللہ  
 واقف ہے ان باتوں سے جو دلوں میں ہیں۔

وَإِذْ كُنَّا نَعْمَةً اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ  
 الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا  
 وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
 بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے کھڑے ہو جایا کرو  
 اللہ کے لئے گواہی دینے کو انصاف کی۔ اور  
 نہ آمادہ کر دے تم کو دشمنی کسی قوم کی اس پر  
 کہ نہ انصاف کرو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی زیادہ  
 قریب ہے تقویٰ کے۔ اور ڈرتے رہو اللہ  
 سے۔ یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ  
 لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

کرتے ہو۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

وعدہ فرمایا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال۔ انکے لئے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ وہی ہیں جہنم والے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ يَّبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے یاد کرو اللہ کے احسان کو (جو اس نے کیا ہے) تم پر جب ارادہ کیا ایک گروہ نے کہ بڑھائیں وہ تم پر اپنے ہاتھ تو روک دیئے اس نے ان کے ہاتھ تم سے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ

اور بلاشبہ لیا تھا اللہ نے اقرار بنی اسرائیل سے۔ اور مقرر کئے تھے ہم نے ان میں بارہ سردار۔ اور فرمایا اللہ نے بیشک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم قائم رکھو گے نماز اور دیتے رہو

گے زکوٰۃ اور ایمان رکھو گے میرے رسولوں پر اور  
مدد کرتے رہو گے ان کی اور قرض دو گے اللہ  
کو قرض حسنہ۔ تو ضرور دور کر دوں گا میں تم سے  
تمہارے گناہ اور ضرور داخل کروں گا میں تمہیں  
جنتوں میں بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہیں۔  
پھر جس نے کفر کیا اسکے بعد تم میں سے تو  
یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے۔

وَأَمْنٌ بِرُسُلِي وَعَزْرٌ مُّمُّوهُمْ  
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
لَّا كُفْرَانَ لَكُمْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
وَلَا دُخْلَانَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ  
ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ  
السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

پس اس وجہ سے کہ توڑ ڈالا انہوں نے اپنے  
عہد کو لعنت کی ہم نے ان پر اور کر دیا ہم نے  
ان کے دلوں کو سخت۔ بدل دیتے ہیں وہ  
کلام (اللہ) کو اسکے مقامات سے۔ اور بھلا  
بیٹھے ایک حصہ اس میں سے نصیحت کی گئی  
تھی انکو جس کی۔ اور تم ہمیشہ خبر پاتے رہتے  
ہو خیانت کی ان کی سوائے چند ایک کے ان  
میں سے۔ سو معاف کر دو انہیں اور درگزر کرو  
یقیناً اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔

فِيمَا نَقُضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ  
وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ  
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا  
مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ  
عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى

نصاری میں لیا تھا ہم نے ان سے عہد پھر فراموش کر دیا انہوں نے ایک حصہ اس کا نصیحت کی گئی ان کو جس کی۔ تو ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان بغض اور کینہ روز قیامت تک کے لئے۔ اور عنقریب آگاہ کر دے گا انہیں اللہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔

أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

اے اہل کتاب یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول کہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لئے بہت کچھ اس میں سے جو چھپاتے تھے تم کتاب میں سے۔ اور درگزر کرتا ہے بہت کچھ۔ بیشک آپکی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مسبین۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

دکھاتا ہے اس کے ذریعہ سے اللہ اس کو جو تابع ہوا اس کی رضا کا راستے سلامتی کے۔ اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے علم سے اور چلاتا ہے ان کو سیدھے راستے پر۔

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ۚ وَ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

بیشک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ



اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم۔ کمدو تو کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی اگر وہ ارادہ کر لے کہ ہلاک کر ڈالے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور ان کو جو زمین میں ہیں سب کو۔ اور اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان۔ پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ط وَ أُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

اور کہا یہود اور نصاریٰ نے ہم بیٹے میں اللہ کے اور اسکے چہیتے ہیں۔ کمدو کہ پھر کیوں عذاب دیتا ہے وہ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب۔ نہیں بلکہ تم بشر ہو انہی میں سے جو اس نے پیدا کیا۔ بخشدے وہ جسے چاہے اور عذاب دے وہ جسے چاہے۔ اور اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان۔ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

وَ قَالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصْرِيُّ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ ط قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ط وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

اے اہل کتاب یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ

ہمارا رسول کہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لئے۔ منقطع رہنے کے بعد سلسلہ رسولوں کا۔ کہ نہ کہو تم کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور نہ ڈرانے والا۔ سو یقیناً آگیا ہے تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

رَسُولَنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ  
مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا  
جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ  
فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ  
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جب پیدا کئے اس نے تم میں پیغمبر اور بنایا تمہیں بادشاہ۔ اور عنایت کیا تم کو اتنا کچھ کہ نہیں دیا کسی کو اہل عالم میں سے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ  
اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
إِذْ جَعَلَكُمْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءً  
وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا  
وَأَتَكُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَحَدًا  
مِّنَ الْعَالَمِينَ

اے میری قوم داخل ہو جاؤ تم ارض مقدس میں جسے لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لئے اور نہ پھر جانا اپنی پیٹھیں موڑ کر ورنہ پلٹو گے نقصان اٹھانے والے ہو کر۔

يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي  
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى  
أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

وہ کہنے لگے اے موسیٰ یقیناً وہاں ایک قوم ہے بہت طاقتور۔ اور یقیناً ہم ہرگز نہ داخل

قَالُوا يٰمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا  
جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّىٰ

ہونگے اس میں جب تک نہ نکل جائیں وہ وہاں سے۔ پس اگر وہ نکل جائیں وہاں سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔

يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٣﴾

کہنے لگے دو شخص ان میں سے جو ڈرتے تھے (اور) انعام فرمایا تھا اللہ نے ان دونوں پر کہ داخل ہو جاؤ ان پر (حملہ کر کے) دروازے میں۔ پھر جب داخل ہو جاؤ گے تم اس میں تو بیشک تم غالب رہو گے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ہو ایمان والے۔

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

وہ بولے اے موسیٰ یقیناً ہم ہرگز نہیں داخل ہونگے اس میں کبھی بھی۔ جب تک وہ لوگ ہیں وہاں۔ تو جاؤ تم اور تمہارا رب پھر دونوں لڑو۔ بیشک ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔

قَالُوا يٰمُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾

کہا اس نے میرے رب بیشک میں نہیں اختیار رکھتا سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے۔ سو تو جدائی کر دے ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو نافرمان ہیں۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾

فرمایا اس نے تو بیشک وہ حرام کر دیا گیا ان پر

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ

سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ  
عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

چالیس برس تک۔ سرگرداں پھرتے رہیں  
گے زمین میں۔ تو نہ افسوس کر نافرمان قوم پر۔

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ  
بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ  
أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ  
قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ  
اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

اور سنا دو انکو قصہ آدم کے دو بیٹوں کا جو بالکل  
حق ہے جب پیش کی دونوں نے ایک نیاز تو  
قبول ہو گئی ان دونوں میں سے ایک کی اور نہ  
قبول ہوئی دوسرے کی۔ تو کہا اس نے کہ یقیناً  
میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا در  
حقیقت قبول کرتا ہے اللہ پرہیزگاروں سے۔

لَيْنُ بَسَطَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا  
بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي  
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

اگر بڑھانے گا تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل  
کرنے کے لئے تو نہیں میں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ  
تیری طرف تجھکو قتل کرنے کے لئے۔ یقیناً  
میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ  
فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَ ذَلِكَ  
جَزَاؤُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

یقیناً میں چاہتا ہوں کہ تو سمیٹ لے میرے گناہ  
کو بھی اور اپنے گناہ کو پھر تو ہو جائے اہل دوزخ  
میں سے اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ

تو ترغیب دی اسکو اسکے نفس نے قتل کی



فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٠﴾

اپنے بھائی کے تو اس نے اسے قتل کر دیا پھر ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں۔

فَبَعَثَ اللّٰهُ عُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِیُرِیْہٖ کَیْفَ یُوَارِیْ سُوْءَةَ اٰخِیْہِ قَالَ یَا وِیْلَتٰی اَعْجَزْتُ اَنْ اَکُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْعُرَابِ فَاُوَارِیْ سُوْءَةَ اٰخِیْ فَاَصْبَحَ مِنَ النَّدِیْمِیْنَ ﴿٢١﴾

پھر بھیجا اللہ نے ایک کو اوجو کریدنے لگا زمین کو تاکہ اسے دکھائے کہ کیسے چھپائے لاش کو اپنے بھائی کی۔ کہنے لگا ہائے میری بدبختی کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ میں ہو سکتا جیسا اس کوے کے کہ چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی۔ پھر وہ ہو گیا پشیمان ہونیوالوں میں۔

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ کَتَبْنَا عَلٰی بَنِیْۤ اِسْرَآئِیْلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الْاَرْضِ فَکَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیْعًا وَّ مَنْۢ اَحْیَاہَا فَکَاَنَّمَا اَحْیَا النَّاسَ جَمِیْعًا وَّلَقَدْ جَاۤءَتْہُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ کَثِیْرًا مِّنْہُمْۢ بَعْدَ ذٰلِكَ فِی الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٢٢﴾

اسی وجہ سے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے (بدلہ میں) یا فساد کیا زمین میں تو گویا اس نے قتل کر ڈالا تمام انسانوں کو۔ اور جس نے زندگی بخشی اسکو تو گویا زندگی دیدی اس نے تمام انسانوں کو۔ اور یقیناً آچکے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ پھر بھی یقیناً بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں بہت زیادتیاں کرنے والے ہیں۔

صرف یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اسکے رسول سے اور دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کو کہ قتل کر دیئے جائیں یا سولی چڑھا دیئے جائیں یا کاٹ دیئے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے یا نکال دیئے جائیں ملک سے۔ یہ انکے لئے رسوائی ہے دنیا میں اور انکے لئے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پیشتر کہ تم قابو پاؤ ان پر۔ تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرتے رہو اس کا قرب اور جہاد کرو اسکی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر یہ کہ ان کے پاس ہو وہ جو زمین میں ہے سب کا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ

سب اور اسی قدر اسکے ساتھ تاکہ فدیہ کر دیں  
وہ اسے عذاب کے بدلے میں قیامت کے  
روز تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے اور انکے  
لئے عذاب ہے درد دینے والا۔

لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ  
مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ  
الِيمٌ ﴿٣٦﴾

چاہیں گے وہ کہ نکل جائیں آگ سے مگر نہیں  
وہ نکل سکیں گے اس سے۔ اور ان کے  
لئے عذاب ہے ہمیشہ کا۔

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا  
هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ  
مُقِيمٌ ﴿٣٧﴾

اور چور مرد اور چور عورت۔ کاٹ دو ہاتھ ان  
دونوں کے۔ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کمایا  
عبرت کے طور پر اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ  
زبردست ہے صاحب حکمت ہے۔

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا  
أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

پھر وہ جس نے توبہ کر لی بعد اپنے گناہ کے اور  
اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ معاف کر دے گا اسکو۔  
بیشک اللہ بخشنے والا ہے بہت مہربان ہے۔

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ  
فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

کیا نہیں معلوم تجھے کہ اللہ ہی کی سلطنت  
ہے آسمانوں اور زمین میں۔ عذاب کرے

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ  
السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ

يَسْأَلُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٤﴾

جسکو چاہے اور بخش دے جسے چاہے۔ اور  
اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ  
يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ  
قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنِ  
قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ  
لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ  
يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ  
مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا  
فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا  
وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ  
مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ  
اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ هُمْ فِي الدُّنْيَا  
خِزْيٌ صُلِحَ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ ﴿٤٥﴾

اے رسول نہ غمگین کریں تم کو وہ لوگ جو  
جلدی کرتے ہیں کفر میں۔ ان لوگوں میں سے  
جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنے منہ سے  
جبکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل۔ اور ان  
لوگوں میں سے جو یہودی ہیں۔ کان لگانے  
والے ہیں جھوٹی باتوں پر۔ جاسوسی کرتے  
میں ان دوسرے لوگوں کے لئے نہیں جو  
تمہارے پاس آئے۔ تحریف کر دیتے ہیں کلام  
میں بعد اس کے مقام میں ثابت ہونے کے  
- کہتے ہیں اگر دیا جائے تم کو یہی (علم) تو  
اسے قبول کر لینا اور اگر نہ دیا جائے یہ تو بچتے  
رہنا۔ اور جسکو چاہے اللہ کہ اسے فتنے میں  
ڈالے تو ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے اسکے لئے  
اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی۔ یہی وہ لوگ  
میں نہیں چاہا اللہ نے کہ پاک کرے ان کے  
دلوں کو۔ انکے لئے دنیا میں ذلت ہے اور  
انکے لئے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔



جا سوسی کرنے والے ہیں جھوٹی باتوں پر۔  
 بہت کھانے والے ہیں حرام کے۔ تو اگر یہ  
 آئیں تمہارے پاس تو فیصلہ کر دینا ان کے  
 درمیان یا روگردانی کر لینا ان سے۔ اور اگر  
 روگردانی کرو گے ان سے تو ہرگز نہیں وہ بگاڑ  
 سکیں گے تمہارا کچھ بھی۔ اور اگر تم فیصلہ کرو تو  
 فیصلہ کرنا ان کے درمیان انصاف کا۔ یقیناً اللہ  
 محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلصَّحْتِ  
 فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ  
 أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ  
 فَلَنْ يَصْرِوْكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ  
 فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ  
 يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

اور کیسے وہ تم کو منصف بنائیں گے جبکہ انکے  
 پاس تورات ہے جس میں حکم ہے اللہ کا پھر  
 بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں اسکے بعد اس سے۔  
 اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان والے۔

وَكَيفَ يُحْكُمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ  
 التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ  
 يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَا  
 أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

بیشک ہم نے نازل فرمائی تورات جس میں  
 ہدایت اور روشنی ہے۔ حکم دیتے تھے اسی  
 کے مطابق انبیاء جو فرمانبردار تھے ان لوگوں کو  
 جو یہودی تھے۔ اور مشائخ اور علماء بھی کیونکہ  
 وہ نگہبان مقرر کئے گئے تھے اللہ کی کتاب  
 کے اور تھے وہ اس پر گواہ۔ سو مت ڈرنا تم

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ  
 يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا  
 لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الرَّبُّونِيُّونَ وَ الْأَحْبَابُ  
 بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا  
 عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ

لوگوں سے اور ڈرتے رہنا مجھ سے اور نہ بیچ ڈالنا میری آیتوں کو حقیر معاوضے پر۔ اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔

وَإِخْشَاؤُنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

اور لکھ دیا تھا ہم نے ان کے لئے اس میں کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا (اسی طرح) بدلہ ہے۔ پس جو معاف کر دے اسے تو وہ کفارہ ہو گا اسکے لئے۔ اور جو نہ حکم دے اسکے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

اور بھیجا ہم نے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنیوالا بنا کر اس کا جو تھا پہلے سے موجود تورات میں۔ اور عنایت کی ہم نے اس کو انجیل جس میں ہدایت اور نور ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کی جو تھا پہلے سے موجود تورات میں اور ہدایت اور نصیحت پر ہیزاروں

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۚ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَهُدًى

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

اور چاہیے کہ حکم دیا کریں اہل انجیل اسکے  
مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے اس میں۔ اور  
جو نہ حکم دے گا اسکے مطابق جو نازل فرمایا اللہ  
نے تو یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
الْكِتَابِ وَ مُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ  
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعْ  
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ  
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً  
وَمِنْهَا جَا وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ  
أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي  
مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى  
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

اور نازل کی ہے ہم نے تم پر یہ کتاب حق  
کے ساتھ جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ہے  
پہلے سے موجود کتاب میں سے اور نگہبان  
ہے اس پر۔ تو فیصلہ کرو ان کے درمیان اسکے  
مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ نے اور نہ پیروی  
کرنا انکی خواہشوں کی اس سے (منہ موڑ کر) جو  
اچکا ہے تمہارے پاس حق۔ ہر ایک کے  
لئے مقرر کیا ہے ہم نے تم میں سے ایک  
دستور اور ایک طریقہ۔ اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا  
تم سب کو امت ایک ہی۔ مگر یہ کہ آزمائش  
کرے وہ تمہاری اس میں جو دیا ہے اس نے  
تم کو۔ سو سبقت لے جاؤ نیک کاموں میں۔  
اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے سب کو پھر یقیناً وہ  
بتا دیگا تمکو وہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔

اور یہ کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان اسی کے مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ نے اور نہ پیروی کرنا انکی خواہشوں کی اور ان سے محتاط رہنا کہ نہ بہکا دیں تم کو کسی (علم) سے جو نازل فرمایا ہے اللہ نے تم پر۔ پس اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ صرف یہی چاہتا ہے اللہ کہ مصیبت نازل کرے ان پر انکے بعض گناہوں کے سبب اور یقیناً اکثر لوگوں میں سے نافرمان ہیں۔

وَ أَنْ أَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

پس کیا فیصلے زمانہ جاہلیت کے یہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ کون بہتر ہے اللہ سے فیصلہ کرنے والا ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں۔

أَفْحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤٢﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ نہ بناؤ یہود اور نصاریٰ کو دوست۔ ان میں سے بعض دوست میں بعض (ایک دوسرے) کے۔ اور جو دوست بنائے گا انکو تم میں سے تو وہ یقیناً انہیں میں سے ہو گا۔ بیشک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٣﴾



تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں  
(نفاق کا) مرض ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کے جاتے  
میں ان میں۔ کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ  
کہیں آپڑے ہم پر زمانے کی گردش۔ سو قریب  
ہے کہ اللہ بھیجے فتح یا کوئی امر اپنے پاس  
سے پھر یہ ہو کر رہ جائیں اس پر جو کچھ یہ چھپایا  
کرتے تھے اپنے دلوں میں پشیمان۔

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ  
يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى  
أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ  
يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ  
فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِيهِ  
أَنْفُسَهُمْ ۗ ذٰلِكَ مِثْلُ ۝۳۶

اور کہیں گے (اس وقت) وہ لوگ جو ایمان  
لانے کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جو قسمیں کھایا  
کرتے تھے اللہ کی۔ سخت سخت اپنی قسمیں۔  
ہم بیشک تمہارے ساتھ ہیں۔ اکارت ہو گئے  
ان کے اعمال سو وہ پڑ گئے خسارے میں۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَآءِ  
الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ  
أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ  
فَأَصْبَحُوا خٰسِرِينَ ۗ ذٰلِكَ مِثْلُ ۝۳۷

اے وہ لوگوں جو ایمان لانے جو کوئی پھر جانے  
گا تم میں سے اپنے دین سے تو عنقریب لے  
آنے گا اللہ ایسے لوگ جنکو وہ محبوب رکھے اور  
اسے وہ محبوب رکھیں۔ مہربان ہوں مومنوں  
پر۔ سخت کافروں پر۔ جہاد کریں وہ اللہ کی راہ  
میں اور نہ ڈریں ملامت سے کسی ملامت

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ  
عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ  
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۗ أَذِلَّةٌ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ  
أَعِزَّةٌ عَلَىٰ الْكٰفِرِينَ ۗ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۗ ذٰلِكَ مِثْلُ ۝۳۸

کرنے والے کی۔ یہ فضل ہے اللہ کا۔ وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور اللہ بڑی کثرت والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

در حقیقت تمہارے دوست اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ (اللہ کے آگے) جھکتے ہیں۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ مُرَاعُونَ ﴿٥٥﴾

اور جو کوئی دوست بن جائے گا اللہ اور اسکے رسول کا اور ان لوگوں کا جو ایمان لائے تو بیشک جماعت اللہ کی کہ وہی غلبہ پانے والے ہیں۔

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے مت بناؤ ان لوگوں کو۔ جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے اور کافروں کو۔ دوست۔ اور ڈرتے رہو اللہ ہی سے اگر ہو تم مومن۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

اور جب تم منادی کرتے ہو نماز کے لئے

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا

تو بنا لیتے ہیں یہ اسے مذاق اور کھیل۔ یہ اس لئے کہ یہ لوگ نہیں عقل رکھتے۔

هُزُواً وَ لَعِبًا ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

کمدو کہ اے اہل کتاب کیا ضد رکھتے ہو تم ہم سے سوائے اسکے کہ ایمان لائے ہیں ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہوا پہلے۔ اور یقیناً تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾

کمدو کیا بتاؤں میں تمہیں کہ کون بدتر ہیں اس سے بھی جزا کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک۔ وہ ہیں لعنت کی اللہ نے اور غضبناک ہوا وہ جن پر اور بنا دئے اس نے ان میں سے بندر اور سور اور بندگی کی جنہوں نے شیطان کی۔ یہی لوگ بدتر ہیں درجہ میں اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔

قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَ عِبَادَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

اور جب آتے ہیں یہ تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے حالانکہ آئے تھے وہ کفر لے کر اور وہ چلے گئے اسی کے ساتھ۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾

اور تم دیکھو گے کہ اکثر ان میں سے جلدی کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی اور حرام کھانے میں۔ بیشک برا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔

وَ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ  
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ ﴿٦٣﴾

کیوں نہیں منع کرتے ان کو مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے سے اور انہیں حرام کھانے سے۔ بیشک برا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔

لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَابُ  
عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ  
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

اور کہا انہوں نے جو میں یہودی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ بندھ گئے انہیں کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر بسبب ایسا کہنے کے اصل یہ ہے کہ اسکے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے اکثر میں اس سے جو نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے شرکشی اور کفر میں۔ اور ڈال دی ہے ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی قیامت کے دن تک۔ جب کبھی جلائی انہوں نے آگ لڑائی کی بجا دیا اسکو اللہ نے۔ اور دوڑتے

وَ قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ  
عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ  
يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ  
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَ كُفْرًا  
وَ أَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ  
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا  
لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي  
الْأَرْضِ فَسَادًا وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ



المُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

پھرتے ہیں وہ زمین میں فساد کے لئے۔ اور  
اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا  
لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ

اور اگر یہ کہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ  
اختیار کرتے تو ضرور دور کر دیتے ہم ان سے ان  
کے گناہ اور داخل کرتے ہم انکو باغوں میں  
نعمت کے۔

جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ  
وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا

اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو اور جو کچھ  
نازل کیا گیا تھا ان پر ان کے رب کی طرف  
سے تو رزق ملتا ان کو انکے اوپر سے اور انکے  
پیروں کے نیچے سے۔ ان میں سے ایک  
جماعت میانہ رو ہے۔ اور اکثر ان میں سے برا  
ہے وہ جو عمل یہ کرتے ہیں۔

مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ  
مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ

سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ  
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ

اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر  
تمہارے رب کی طرف سے۔ اور اگر نہ کیا تم  
نے ایسا تو نہ پہنچایا تم نے اس کے پیغام کو۔  
اور اللہ بچائے رکھے گا تم کو لوگوں سے۔  
بیشک اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا ان لوگوں کو  
جو انکار کرتے ہیں۔

فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ  
يَعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا

يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

کہدو کہ اے اہل کتاب نہیں ہو سکتے تم کسی بھی راہ پر جب تک کہ نہ قائم کرو تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے اکثر میں اس سے جو نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے شرکشی اور کفر میں۔ تو نہ افسوس کرو تم ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨﴾

یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصاریٰ۔ جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل کرے نیک تو نہ خوف ہوگا انکو اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٩﴾

یقیناً ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے اور بھیجے انکی طرف رسول۔ جب بھی آیا انکے پاس کوئی رسول وہ (علم لے کر) جو نہ چاہا انکے دلوں نے۔ تو ایک جماعت کو جھٹلا دیا انہوں نے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنَّا لَمْ يَتَّقُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ فَهَبُوا كَذَّبُوا وَفَرَّقُوا يَفْقَهُونَ ﴿٣٠﴾

اور وہ خیال کرتے تھے کہ نہیں آپڑے گی کوئی آفت تو وہ ہو گئے اندھے اور ہو گئے بہرے پھر توبہ قبول فرمائی اللہ نے انکی۔ پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے بہت سے ان میں سے۔ اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔

وَحَسِبُوا إِلَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

بیشک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ حالانکہ کہا تھا مسیح نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ یقیناً جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو بیشک حرام کر دی ہے اللہ نے اس پر بہشت۔ اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور نہیں ہو گا ظالموں کا کوئی مددگار۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

بیشک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ حالانکہ نہیں کوئی معبود سوائے معبود واحد کے۔ اور اگر نہیں وہ باز آئیں گے اس سے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

سے عذاب تکلیف دینے والا۔

مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

تو کیوں نہیں توبہ کرتے ہو اللہ کے حضور اور  
معافی مانگتے گناہوں کی اس سے۔ اور اللہ بخشنے  
والا ہے مہربان ہے۔

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونََهُ  
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾

نہیں تھا مسیح ابن مریم مگر ایک رسول۔ البتہ  
گذر چکے اس سے پہلے بہت سے رسول۔ اور  
اسکی ماں ایک راہ راست عورت تھی۔  
کھاتے تھے دونوں کھانا۔ دیکھو کس طرح ہم  
کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لئے آیتیں  
پھر دیکھو کہاں یہ الٹے جا رہے ہیں۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ  
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ  
صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ انظُرْ  
كَيْفَ نُبَيِّنُهُمْ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ  
أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

کمدو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ایسی  
چیز کی نہیں جسکو کچھ اختیار تمہارے نقصان اور  
نہ نفع کا۔ اور اللہ ہی سب سنتا ہے جانتا ہے۔

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا  
يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ  
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾

کمدو اے اہل کتاب نہ مبالغہ کرو اپنے دین  
میں ناحق اور نہ پیروی کرو خواہشوں کی ایسے  
لوگوں کی جو خود بھی گمراہ ہو گئے پہلے ہی اور  
گمراہ کر گئے اکثروں کو اور بھٹک گئے سیدھے

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ  
غَيْرِ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ  
ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيرًا



وَصَلُّوا عَنِ سِوَاءِ السَّبِيلِ ۗ

راستے سے۔

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي  
إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى  
ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا  
يَعْتَدُونَ

لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی  
اسرائیل میں داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ ابن  
مریم (کی زبان سے)۔ یہ اس لئے کہ نافرمانی  
کرتے تھے اور حد سے تجاوز کئے جاتے تھے۔

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ  
فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو برے  
کام سے جو وہ کرتے تھے۔ بلاشبہ برا ہے جو  
کچھ وہ کیا کرتے تھے۔

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ  
أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي  
الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ

تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ دوستی  
رکھتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔  
یقیناً برا ہے جو کچھ آگے بھیجا ہے انہوں نے  
خود اپنی جانوں کے لئے۔ کہ ناخوش ہوا اللہ ان  
سے اور عذاب میں وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا  
أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ  
أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ

اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور پیغمبر پر اور  
جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر تو نہ بناتے ان کو  
دوست لیکن اکثر ان میں نافرمان ہیں۔

یقیناً تم پاؤ گے سب سے زیادہ سخت انسانوں میں عداوت میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے یہودی اور وہ جہنوں نے شرک کیا۔ اور یقیناً تم پاؤ گے ان سے قریب تر دوستی کے لحاظ سے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ یہ اس لئے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور مشائخ ہیں۔ اور یہ کہ وہ نہیں تکبر کرتے۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً  
لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ  
أَشْرَكُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ  
مَّوَدَّةً  
لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي  
ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَ  
رُهْبَانًا وَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

اور جب سنتے ہیں وہ اس کو جو نازل کیا گیا رسول (محمد ﷺ) پر تو تم دیکھتے ہو کہ انکی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے۔ اسلئے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو لکھ لے ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ۔

وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى  
الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ  
مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ  
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ  
الشُّهَدَاءِ ﴿٨٣﴾

اور کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ ایمان لائیں ہم اللہ پر اور جو آپہنچا ہے ہمارے پاس حق۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب ساتھ ان لوگوں کے جو صالح ہیں۔

وَ مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَا  
جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا  
رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾

پس صلہ دیا انکو اللہ نے بسبب اس کے جو انہوں نے کہا۔ جنتیں بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں۔ اور یہی جزا ہے نیکوکاروں کی۔

فَأْتَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ وہی ہیں اہل دوزخ۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے مت حرام کرو پاکیزہ چیزیں جو حلال کردی ہیں اللہ نے تمہارے لئے اور نہ حد سے بڑھو۔ یقیناً اللہ نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے حلال پاکیزہ۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ وہی تم جس پر ایمان رکھتے ہو۔

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

نہیں مواخذہ کرتا تم سے اللہ بیودہ قسموں پر تمہاری لیکن وہ مواخذہ کرے گا ان پر پختہ جو تم نے کی ہیں قسمیں۔ تو اس کا کفارہ کھانا کھلانا

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ

ہے دس ناداروں کو اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے اہل و عیال کو یا کپڑے پہنانا ان کو یا آزاد کرنا ایک غلام کا۔ پس جس کو نہ یہ میسر ہو تو روزے رکھنا تین دن کے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا لو اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لئے اپنی آیتیں تاکہ تم شکر کرو۔

عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا  
تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ  
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ  
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ  
إِذَا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨١﴾

اے وہ لوگو جو ایمان لائے بلاشبہ شراب اور جوا اور بت اور پانسے (یہ سب) ناپاک کام اعمال شیطان سے میں میں سوان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ  
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٨٠﴾

بلاشبہ چاہتا ہے شیطان کہ ڈلوا دے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی شراب اور جوائے سے اور روک دے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تو کیا تم (ان کاموں سے) باز آؤ گے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ  
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ  
الْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ  
عَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٨١﴾



اور اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اطاعت کرتے رہو رسول کی اور ڈرتے رہو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان رکھو درحقیقت ہمارے رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔

وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَ احْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا  
أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾

نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال کچھ گناہ اس پر جو وہ کھا چکے (پہلے)۔ جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال۔ پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے پھر پرہیز کیا اور نیکو کاری کی۔ اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکو کاروں کو۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا  
اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ  
اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا  
وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے یقیناً تمہاری آزمائش کرے گا اللہ کسی قدر شکار سے جسکو تم حاصل کر سکو اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں سے تاکہ معلوم کرے اللہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ۔ سو جو زیادتی کرے اسکے بعد تو اسکے لئے عذاب ہے دکھ دینے والا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ  
بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَ  
رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ  
بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٤﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نہ مارنا شکار کے جانور جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ اور جو کوئی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا  
الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ وَ مَن قَتَلَهُ

مارے گا سے تم میں سے جان بوجھ کر تو اس کا تاوان ہے مثل اس کے جو مارا اس نے کوئی مویشی۔ فیصلہ کریں گے جس کا دو معتبر شخص تم میں سے۔ بطور نذرانہ پہنچایا جائے کعبے تک یا کفارہ کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو یا برابر اسکے روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ معاف کر دیا اللہ نے وہ جو پہلے ہو چکا اور جو کوئی پھر ایسا کام کرے گا تو انتقام لے گا اللہ اس سے۔ اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا ہے۔

مِنْكُمْ مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ



حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لئے شکار سمندر کا اور اس کا کھانا فائدہ تمہارے لئے اور مسافروں کیلئے۔ اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا جب تک ہو تم احرام کی حالت میں۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ جسکے پاس تم جمع کئے جاؤ گے۔

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ



بنایا ہے اللہ نے کعبے کو جو گھر ہے حرمت کا۔ موجب قیام لوگوں کے لئے اور مہینے کو حرمت کے اور قربانی کے جانور کو اور ان جانوروں کو جن

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْهُدَى وَ الْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِيَتَّعَلَمُوا

کے گلے میں پٹے بندھے ہوں۔ یہ اس لئے  
کہ تم جان لو کہ بیشک اللہ جانتا ہے جو کچھ  
آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور یقیناً  
اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے  
اور یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾

نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پیغام پہنچا دینا۔  
اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ  
تم چھپاتے ہو۔

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿١٩﴾

کمدو کہ نہیں برابر ہو سکتیں ناپاک چیزیں اور پاک  
چیزیں اگرچہ کہ بھلی ہی لگے تمہیں کثرت ناپاک  
چیزوں کی۔ تو ڈرتے رہو اللہ سے اے اہل  
شعور تاکہ تم فلاح پاؤ۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ  
وَلَوْ أَحْبَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ  
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے مت سوال کرو  
ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر ظاہر کر دی  
جائیں تم پر تو بری لگیں تمہیں۔ اور اگر تم پوچھو  
گے ان کے بارے میں ایسے وقت کہ نازل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا  
عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ  
وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ

ہو رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی تم پر۔  
درگزر فرمایا ہے اللہ نے ان سے۔ اور اللہ  
بخشنے والا بردبار ہے۔

الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا  
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٤﴾

یقیناً پوچھی تمہیں ایسی باتیں لوگوں نے تم سے  
پہلے پھر ہو گئے وہ ان کا انکار کر نیوالے۔

قَدْ سَأَلْنَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ  
أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٥﴾

نہیں مقرر کیا ہے اللہ نے  
کوئی بحیرہ (ایسی اونٹنی جس کا دودھ صرف بتوں  
کے لئے وقف کر دیا گیا)  
اور نہ سائبہ (ایسی اونٹنی جس کو بتوں کے لئے  
چرنے کو چھوڑ دیا گیا)  
اور نہ وصیلہ (ایسی اونٹنی جس کو بتوں کے نام  
پر آزاد کر دیا اس لئے کہ اس نے دو مونٹ بچوں  
کو جنم دیا)  
اور نہ حام (ایسا اونٹ جس کو بتوں کے نام پر  
آزاد کر دیا اس لئے کہ اس نے ایک مقرر تعداد  
کی اونٹیوں کو حاملہ کر دیا)

مَا جَعَلَ اللَّهُ  
مِنْ بَحِيرَةٍ  
وَلَا سَائِبَةٍ  
وَلَا وَصِيلَةٍ  
وَلَا حَامٍ ﴿١٦﴾

لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گھرتے ہیں  
اللہ پر جھوٹ اور ان میں اکثر نہیں عقل

وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى  
اللَّهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لَا



اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ رجوع کرو اسکی طرف جو نازل فرمایا ہے اللہ نے اور رسول کی طرف تو کہتے ہیں کہ کافی ہے ہمیں وہ پایا ہے ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو۔ اگرچہ تھے ان کے باپ دادا کہ نہ علم رکھتے ہوں کچھ بھی اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَآيَ تَدُونِ ﴿١٤﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پر (فکر لازم ہے) اپنی جانوں کی۔ نہیں کچھ بگاڑ سکتا تمہارا وہ جو گمراہ ہوا جب تم ہدایت پر ہو۔ اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو۔ پھر وہ بتلا دے گا تم کو جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے گواہی (کا طریقہ یہ ہے) تمہارے درمیان کہ جب آپہنچے تم میں سے کسی کی موت بوقت وصیت (تو گواہ کر لو) دو صاحب عدل اپنوں میں سے یا دو دوسرے تمہارے غیروں میں سے اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں اور آن پڑے تم پر مصیبت موت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ ۖ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ

کی۔ روک لو ان دونوں کو نماز کے بعد تو قسمیں کھائیں دونوں اللہ کی اگر تم کو شک ہو کہ نہ ہم وصول کریں گے اس (شہادت) کے عوض کچھ معاوضہ اگرچہ کہ ہو وہ رشتہ دار۔ اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی شہادت کو (ورنہ) بیشک ہم تب تو ہونگے یقیناً گناہگاروں میں سے۔

مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾

پھر اگر معلوم ہو جائے اس بارے میں کہ وہ دونوں مبتلا ہو گئے گناہ میں تو دوسرے دو اٹھ کھڑے ہوں ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی ہوئی (میت کے) قرابت والے پھر وہ قسمیں کھائیں اللہ کی کہ ہماری شہادت زیادہ درست ہے ان دونوں کی شہادت سے اور نہیں کی ہم نے کوئی زیادتی۔ (ورنہ) بیشک ہم تب تو ہونگے یقیناً ظالموں میں سے۔

فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَثْمًا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَأَخْرَجَ يَقُومَنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولٰئِينَ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

یہ قریب تر ہے کہ وہ ادا کریں شہادت کو اسکے صحیح طریقہ پر یا خوف کریں کہ رد کر دی جائیں گی (انکی) قسمیں انکے قسمیں کھانے کے بعد اور ڈرو اللہ سے اور سنو۔ اور اللہ نہیں ہدایت

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وُجُوْهِهَا اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تَرَدَّ اَيْمَانُهُمْ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ<sup>ع</sup>

دیتا ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ  
مَاذَا أُجِبْتُمْ<sup>ط</sup> قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا  
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ<sup>ط</sup>

جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو پھر پوچھے  
گا کہ کیا جواب ملا تھا تمہیں۔ وہ کہیں گے  
نہیں کچھ علم ہمیں۔ یقیناً تو ہی جاننے والا  
ہے غیب کی باتوں کا۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  
اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ  
إِذْ آتَيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ<sup>ق</sup> تَكَلِّمُ  
النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا<sup>و</sup> إِذْ عَلَّمْتُكَ  
الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ<sup>و</sup> وَالتَّوْرَةَ  
وَالْإِنْجِيلَ<sup>و</sup> إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ  
كَهَيِّئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا  
فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ  
وَإِلْبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ نُخْرِجُ الْمُوتَى  
بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ

جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر میرا  
انعام تجھ پر اور تیری والدہ پر جب مدد کی میں  
نے تیری روح القدس سے۔ بات کرتا تھا تو  
لوگوں سے گوارے میں اور بڑی عمر میں۔ اور  
جب سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت  
اور تورات اور انجیل اور جب بناتا تھا تو گارے  
سے صورت پرندے کی میرے علم سے پھر تو  
پھونک مار دیتا تھا اس میں تو وہ بن جاتا تھا پرندہ  
میرے علم سے۔ اور اچھا کر دیتا تھا تو پیدائشی  
اندھے کو اور کوڑھی کو میرے علم سے۔ اور جب  
نکال کھڑا کرتا تھا تو مردوں کو میرے علم سے۔  
اور جب روک دیا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ  
سے جب آیا تو ان کے پاس کھلی نشانیاں

کے ساتھ تو کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا  
ان میں سے کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا۔

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا  
سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١﴾

اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں  
کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ وہ  
کہنے لگے ہم ایمان لائے اور شاہد رہ اس پر کہ  
ہم فرمانبردار ہیں۔

وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ  
آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا  
وَ أَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١٢﴾

جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا  
ایسا کر سکتا ہے تیرا رب کہ نازل کرے ہم پر  
کھانے کا خوان آسمان سے۔ کہا اس نے کہ ڈرو  
اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے۔

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ  
مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ  
يُنزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ  
اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں ہم  
اس میں سے اور اطمینان پائیں ہمارے دل اور  
ہم جان لیں کہ یقیناً تو نے سچ کہا ہے ہم سے  
اور ہو جائیں ہم اس پر گواہی دینے والوں میں۔

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ  
قُلُوبُنَا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا  
وَ نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشُّهَدَائِينَ ﴿١٤﴾

کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ ہمارے رب  
نازل فرما ہم پر کھانے کا خوان آسمان سے کہ

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا  
أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ



قرار پائے ہمارے لئے عید ہمارے اگلوں کے لئے اور ہمارے پچھلوں کے لئے اور ہو نشانی تیری طرف سے۔ اور رزق دے ہمیں اور تو ہے سب سے بہتر رزق دینے والا۔

تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا  
وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ  
الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾

فرمایا اللہ نے میں ضرور نازل کروں گا وہ تم پر۔ پس جو کفر کرے گا اسکے بعد تم میں سے تو یقیناً میں عذاب دوں گا اسے۔ ایسا عذاب کہ نہ دونگا اس جیسا عذاب کسی کو اہل عالم میں۔

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ  
يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا  
لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾

اور جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری والدہ کو دو معبود اللہ کے سوا۔ کہے گا وہ پاک ہے تو نہیں تھا یہ زیب مجھے کہ میں کہتا وہ جس کا نہیں مجھے کچھ حق۔ اگر میں نے کہا ہو گا ایسا تو یقیناً تجھ کو معلوم ہو گا اسکے بارے میں۔ تو جانتا ہے اسے جو میرے جی میں ہے اور نہیں جانتا میں اسے جو تیرے جی میں ہے۔ بیشک تو جاننے والا ہے غیب کا۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  
ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي  
إِهْلِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ  
سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا  
لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ  
فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي  
وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ  
عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

نہیں کہا میں نے ان سے بجز اسکے مجھے علم

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ

دیا تو نے جس کا کہ عبادت کرو تم اللہ کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا۔ اور تمہا میں ان پر نگراں جب تک رہا میں ان میں۔ پھر جب اٹھا لیا تو نے مجھے تو تمہا تو نگہبان ان پر۔ اور تو ہر چیز پر نگراں ہے۔

اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُمْ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

اگر تو عذاب دے انہیں تو یقیناً وہ تیرے بندے ہیں۔ اور اگر تو معاف کر دے انہیں تو بیشک تو ہی غالب ہے حکمت والا ہے۔

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تُعْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

فرمائے گا اللہ یہ دن ہے کہ نفع دے گی سچوں کو انکی سچائی۔ ان کے لئے باغات ہیں بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور راضی ہونے وہ اس سے۔ یہی ہے کامیابی بڑی۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

اللہ کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

